



## **PRESS RELEASE**

For immediate release

January 30, 2024

### **SECP permits live testing of 9 innovative business models under RSB**

ISLAMABAD, January 30: The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) has permitted live testing of their innovative business model to nine applicants of Regulatory Sandbox. The application has successfully completed its incubation period.

The selected entities have been employing blockchain, AI, and other technology-based solutions for gold and real estate fractionalization, algorithmic trading, one-window SME lending, education finance, and crowdfunding. The entities will offer financial services to a limited customer base over the next few months.

In September 2023, the SECP permitted ten applicants to enter the incubation phase of the RSB to test their distinct business models. These included including M/s FINCLUDE Systems Pvt Ltd, M/s LOOP Financial Services Ltd, M/s AKRU Pak Pvt. Ltd, M/s CG Global Pvt Ltd, M/s Xstate Technologies Pvt Ltd, M/s Diamond Technologies (SMC Pvt) Ltd, M/s Quantree Pvt Ltd, M/s Reals, M/s Al-Hilal Securities Advisors Pvt Ltd, and M/s ibox 7 Pvt Ltd. Out of the eleven business models, nine have successfully completed the incubation phase and begun testing.

Two business models, namely 'ibanc360' of ibox 7 Ltd. and 'Robo-Advisory - Multi-Manager Investment Plans' of Al-Hilal Securities Advisors Pvt Ltd. could not transition successfully from the incubation phase to the live testing phase. However, Al-Hilal Securities Advisors Pvt. Ltd. Is continuing to test its gold fractionalization model in the incubation phase.

The SECP's Regulatory Sandbox, a platform for fostering technological innovation in financial services, has been in operation for four years. Over 130 fintech companies have applied for testing, with 31 business models approved. The SECP has transitioned from a cohort-based approach to an "always open" one, allowing applicants to test their innovative business models anytime throughout the year.

The testing of technology-driven solutions through the Regulatory Sandbox can catalyse financial and technological innovation, thereby expanding the spectrum of financial products. This aligns with the SECP's vision of promoting financial inclusion and fostering the growth of FinTech and related sectors within its regulatory purview.

ایس ای سی پی کے ریگولیٹری سینڈ بکس کے تحت 9 اختراعی بزنس ماڈلز کی لائو ٹیسٹنگ کی اجازت

اسلام آباد، 30 جنوری: سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے ریگولیٹری سینڈ بکس کے تحت جدید ٹیکنالوجی پر مشتمل نو کاروباری ماڈلز کو کامیابی کے ساتھ انکیوبیشن کی مدت مکمل کرنے کے بعد مارکیٹ میں براہ راست ٹیسٹنگ کی اجازت دے دی ہے۔ ریگولیٹری سینڈ بکس میں شامل یہ فن ٹیک کمپنیاں بلاک چین ٹیکنالوجی، آرٹی فیشل انٹیلی جنس اور سونے اور رئیل اسٹیٹ کے فرکشنلائزیشن، الگورتھمک ٹریڈنگ، ون ونڈو قرضہ، تعلیمی فنانس، اور کراؤڈ فنڈنگ پر مبنی کاروباری ماڈل استعمال کر رہے ہیں۔ مارکیٹ میں لائو ٹیسٹنگ کے دوران یہ کمپنیاں اپنی خدمات محدود مدت کے لئے محدود صارفین کو پیش کریں گے۔

ایس ای سی پی نے ستمبر 2023 میں دس درخواست دہندگان، جن میں فن کلاؤڈ سسٹم پرائیویٹ لمیٹڈ؛ میسرز لوپ فنانشل سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ؛ میسرز اے کے آر یو پاک پرائیویٹ لمیٹڈ؛ میسرز سی جی گلوبل پرائیویٹ لمیٹڈ؛ میسرز ایکس اسٹیٹ ٹیکنالوجیز پرائیویٹ لمیٹڈ؛ میسرز ڈائمنڈ ٹیکنالوجیز (ایس ایم سی پرائیویٹ) لمیٹڈ؛ میسرز کوانٹری پرائیویٹ لمیٹڈ؛ میسرز ریئلز؛ میسرز الہلال سکیورٹیز ایڈوائزرز پرائیویٹ لمیٹڈ اور میسرز آئی بکس سیون پرائیویٹ لمیٹڈ شامل ہیں، کو مخصوص کاروباری ماڈلز کو جانچنے کے لئے سینڈ بکس کے انکیوبیشن میں شامل کیا تھا۔ اس دوران گیارہ کاروباری ماڈلز میں سے نو نے کامیابی سے انکیوبیشن مرحلہ مکمل کر لیا ہے اور انہیں لائو ٹیسٹنگ کی اجازت دی گئی ہے۔

انکیوبیشن کے دوران دو کاروباری ماڈلز، میسرز آئی بکس سیون لمیٹڈ کا بزنس ماڈل اور الہلال سکیورٹیز ایڈوائزرز پرائیویٹ لمیٹڈ کا روبرو ایڈوائزرز پر مشتمل بزنس ماڈل انکیوبیشن مرحلے سے لائو ٹیسٹنگ کے مرحلے میں کامیابی سے منتقل نہیں ہو سکے۔ تاہم، الہلال سکیورٹیز ایڈوائزرز پرائیویٹ لمیٹڈ انکیوبیشن کے مرحلے میں اپنے سونے کے فریکشنلائزیشن ماڈل کی جانچ جاری رکھے ہوئے ہے۔

ایس ای سی پی کا ریگولیٹری سینڈ بکس، مالیاتی خدمات کے شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دینے کے لئے ایک اہم پلیٹ فارم ثابت ہوا ہے۔ ریگولیٹری سینڈ بکس کے چار سال کے عرصہ میں 130 سے زائد فنٹیک کمپنیوں نے اپنے کاروباری ماڈلز کی جانچ کے لیے درخواستیں دیں، جن م سے اب تک 31 کاروباری ماڈلز کی منظوری دی گئی ہے۔